



## سنٹرل پنجاب اور ناردرن کی ٹیمیں قائداعظم ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گئیں

- ناردرن نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد خیبرپختونخوا کو 39 رنز سے شکست دی
- سدرن پنجاب کے خلاف میچ ڈرا کرنے کے باوجود سنٹرل پنجاب کی فائنل میں رسائی
- سندھ اور بلوچستان کے درمیان میچ بھی ڈرا ہو گیا

لاہور، 5 دسمبر 2019ء:

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں کھیلے گئے میچ میں ناردرن نے خیبرپختونخوا کو 39 رنز سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ 245 رنز کے ہدف کے تعاقب میں خیبرپختونخوا کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 205 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ذویب خان اور اسرار اللہ کی نصف سنچریاں بھی خیبرپختونخوا کو شکست سے نہ بچاسکیں پہلی اننگز میں 2 وکٹیں حاصل کرنے والے ناردرن کے کپتان نعمان علی نے دوسری اننگز میں 4 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ اس سے قبل ناردرن نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 411 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی۔ جواب میں خیبرپختونخوا کی پوری ٹیم 306 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ 105 رنز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی ناردرن کی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کی۔

دوسری جانب سنٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب کے درمیان اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا میچ ڈرا ہو گیا ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر بہتر پوزیشن کے باعث سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ میچ کے آخری روز سنٹرل پنجاب کے اوپنر سلمان بٹ اور کپتان احمد شہزاد نے ناقابل شکست سنچریاں اسکور کیں۔ سلمان بٹ نے 158 اور احمد شہزاد نے 100 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ کامران اکمل 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

205 رنز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے دن کے اختتام پر 1 وکٹ کے نقصان پر 309 رنز بنالیے تھے۔ پہلی اننگز میں سنٹرل پنجاب کے 597 رنز کے جواب میں سدرن پنجاب کی پوری ٹیم 392 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔

ادھر بلوچستان اور سندھ کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا میچ بھی بے نتیجہ ختم ہوگیا۔ 44 رنز کے خسارے سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی بلوچستان کی ٹیم نے 1 وکٹ کے نقصان پر 181 رنز بنائے تھے کہ میچ کے لیے مقررہ وقت ختم ہوگیا۔ بلوچستان کے اوپنر عمران بٹ نے 101 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اس سے قبل 471 رنز کے جواب میں سندھ کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 515 رنز بناکر آؤٹ ہوئی۔ مڈل آرڈر بیٹسمین فواد عالم نے میچ کے آخری روز سنچری اسکور کی۔ وہ 116 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ بلوچستان کی جانب سے تاج ولی اور جلات خان نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)